

مولانا مفتی محمد رفیع صاحب
مفتی اعظم دارالعلوم حقانیہ

استفتاء

غیر مقلدین کی غلط فہمی، سفر برائے زیارت قبور

سماع موتی، توسل بالصالحین اور حیلہ استفاہ

سوال :- بعض آزاد منشی اور غیر مقلد بھی قرآن اور احادیث سے استدلال کرتے ہیں تو ان کی غلط فہمی کا ایشار کیا ہے؟

جواب :- یہ لوگ غالباً چار غلطیاں کرتے ہیں۔ (ا) اول یہ کہ جس چیز کے متعلق وحی میں ذکر نہ ہو نہ نفیاً اور نہ اثباتاً۔ تو یہ لوگ اس کو نفی قرار دیتے ہیں۔ عدم الذکر اور ذکر عدم میں فرق نہیں کرتے۔ مثلاً یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد سہیت اجتماعی سے دعا نہیں کی۔ حالانکہ اس کے متعلق ذخیرہ احادیث خاموش اور ساکت ہے۔ یہ لوگ عدم الذکر سے ذکر عدم بناتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی رو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد سہیت اجتماعی سے دعا نہیں کی ورنہ مروی ہوتا تو اقرار سے بچتے۔ (ب) دوم یہ لوگ قول رسول اور فعل رسول اور تقریر رسول تینوں کو حدیث اور سنت قرار دیتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ بدعت اس چیز کو قرار دیا جائے جس میں یہ تینوں مفتی ہوں۔ لیکن یہ لوگ اس چیز کو جس کے متعلق فعل رسول ثابت نہ ہو۔ بے دھڑک بدعت قرار دیتے ہیں۔ اولمزید تحقیق نہیں کرتے۔ (ج) سوم یہ کہ حدیث ابو داؤد وما سکت عنہ فہو عفو۔ کی بنا پر اصل اشیاء میں ایاحت ہے۔ اور یہ لوگ ایسی اشیاء کو بے دھڑک حرام اور بدعت قرار دیتے ہیں (د) چہاں یہ کہ لوگ فقہا کرام اور بزرگان کے مختصر یا مبہم کلام کو اپنی سجدیت کی توثیق کے لئے نقل کرتے ہیں اور ان کی تصریح کو نظر انداز کرتے ہیں۔

سوال :- کیا زیارت قبور کے لئے سفر جائز ہے۔

جواب :- ہاں جائز ہے۔ نہایت کم عن زیارت القبور فزورد ہا میں نے تم کو زیارت القبور سے منع کیا تھا پس اس لئے زیارت القبور کیا کرو۔ اس میں سفر یا غیر سفر کی کوئی قید نہیں ہے۔